



## سعود شکیل اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیاکپ 2019 میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے

لاہور، یکم نومبر 2019ء:

پی سی بی نے اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ 2019 کے لیے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ ٹیم کی قیادت ٹاپ آرڈر بیٹسمین سعود شکیل اور نائب کپتانی وکٹ کیپر بیٹسمین روحیل نذیر کے سپرد کی گئی ہے۔ ایونٹ 12 سے 23 نومبر تک بنگلہ دیش میں کھیلا جائے گا۔

ایونٹ کے لیے 15 رکنی قومی اسکواڈ کا انتخاب قومی سینئر اور جونیئر کرکٹ ٹیموں کی سلیکشن کمیٹی کے ممبران نے باہمی اتفاق رائے سے کیا ہے۔ قوانین کے مطابق اسکواڈ میں شامل 11 کھلاڑیوں کی عمر 23 سال سے کم ہوگی جبکہ 23 سال یا اس سے زائد عمر کے حامل 4 کھلاڑیوں کو اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔

ایونٹ کے لیے قومی ایمرجنگ اسکواڈ کا انتخاب کھلاڑیوں کی قائداعظم ٹرافی، قومی ٹی ٹونٹی کپ، قومی تین روزہ اور ایک روزہ انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹس میں کارکردگی کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا ہے۔

ایونٹ میں شریک 8 ٹیموں کو 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں پاکستان کے علاوہ افغانستان، اومان اور سری لنکا جبکہ گروپ بی میں بھارت، بنگلہ دیش، ہانگ کانگ اور نیپال کی ٹیمیں شامل ہیں۔ ایونٹ میں پاکستان اپنا پہلا میچ 14 نومبر کو افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ قومی ایمرجنگ ٹیم اپنے تینوں گروپ میچز کاکس بازار میں کھیلے گی۔

ناک آؤٹ مرحلے کے تینوں میچز میرپور میں کھیلے جائیں گے۔ ایونٹ کے سیمی فائنلز 20 اور 21 نومبر جبکہ فائنل 23 نومبر کو کھیلا جائے گا۔

اسکواڈ:

سعود شکیل (کپتان)، روحیل نذیر (نائب کپتان) (وکٹ کیپر)، حیدر علی، عمیر بن یوسف، حسن محسن، خوشدل شاہ، سیف بدر، عمران رفیق، محمد محسن، عاکف جاوید، محمد حسنین، ثمین گل، عماد بٹ، محمد اسد اور عمر خان۔

ریزو:

حسین طلعت، عادل امین، محمد حارث اور عامر علی۔

ٹیم منیجمنٹ:

اعجاز احمد (منیجر کم ہیڈ کوچ)، راؤ افتخار انجم (باؤلنگ کوچ)، عبدالمجید (اسسٹنٹ کوچ)، حافظ نعیم الرسول (فزیو تھراپسٹ)، صبور احمد (ٹرینر)، عثمان ہاشمی (اینالسٹ) اور یونس بٹ (سیکورٹی منیجر)۔

شیڈول:

- 14 نومبر: پاکستان بمقابلہ افغانستان
- 16 نومبر: پاکستان بمقابلہ سری لنکا
- 18 نومبر: پاکستان بمقابلہ اومان
- 20 نومبر: پہلا سیمی فائنل
- 21 نومبر: دوسرا سیمی فائنل
- 23 نومبر: فائنل

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**  
Editor – Urdu Content  
Media and Communications  
E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)  
M: +92 (0) 345 474 3486  
W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

## ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

### Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk) ●  
@therealpcb ●  
@PakistanCricketBoard ●  
@PakistanCricketOfficial ●  
@therealpcb ●

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4